



سوال

اونٹ کی قربانی کے حصے

جواب

سوال: السلام علیکم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی میں کتنے حصے مقرر کئے ہیں جیسے گائے یا بھینس میں سات حصے ہوتے ہیں۔

جواب: شیخ صالح المنجد ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:
سوال: کیا قربانی میں حصہ ڈالنا جائز ہے، ایک قربانی میں کتنے مسلمان شریک ہو سکتے ہیں؟

الحمد للہ:

اگر اونٹ یا گائے کی قربانی ہو تو اس میں حصہ ڈالا جاسکتا ہے، لیکن اگر بکری اور بھیڑ یا دنبہ کی قربانی کی جائے تو پھر اس میں حصہ نہیں ڈالا جاسکتا، اور ایک گائے یا ایک اونٹ میں سات حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حج یا عمرہ کی ہدی میں ایک اونٹ یا گائے میں سات افراد کا شریک ہونا سے ثابت ہے

امام مسلم رحمہ اللہ نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ:

"ہم نے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ اور ایک گائے سات سات افراد کی جانب سے ذبح کی تھی"

صحیح مسلم حدیث نمبر (1318).

اور ایک روایت میں ہے کہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

"ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور ایک اونٹ اور ایک گائے سات افراد کی جانب سے ذبح کی"

اور ابو داؤد کی روایت میں ہے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"گائے سات افراد کی جانب سے ہے، اور اونٹ سات افراد کی جانب سے"

سنن ابو داؤد حدیث نمبر (2808) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے



امام نووی رحمہ اللہ مسلم کی شرح میں رقمطراز ہیں :

"ان احادیث میں قربانی کے جانور میں حصہ ڈالنے کی دلیل پائی جاتی ہے، اور علماء اس پر مستحق ہیں کہ بکرے میں حصہ ڈالنا جائز نہیں، اور ان احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک اونٹ سات افراد کی جانب سے کافی ہوگا، اور گائے بھی سات افراد کی جانب سے، اور ہر ایک سات بکریوں کے قائم مقام ہے، حتیٰ کہ اگر محرم شخص پر شکار کے فدیہ کے علاوہ سات دم ہوں تو وہ ایک گائے یا اونٹ نخر کر دے تو سب سے کفانت کر جائیگا" انتہی مختصراً

اور مستقل فتویٰ کمیٹی سے قربانی میں حصہ ڈالنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو ان کا جواب تھا :

"ایک اونٹ اور ایک گائے سات افراد کی جانب سے کفانت کرتی ہے، چاہے وہ ایک ہی گھر کے افراد ہوں، یا پھر مختلف گھروں کے، اور چاہے ان کے مابین کوئی قرابت و رشتہ داری ہو یا نہ ہو؛ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک گائے اور ایک اونٹ میں سات افراد شریک ہونے کی اجازت دی تھی، اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا" انتہی

دیکھیں : فتاویٰ البیہ الدائمۃ للبحوث العلمیہ والاقتناء (401/11)

اور "احکام الاضحیہ" میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں :

"اور بکری ایک شخص کی جانب سے کفانت کرے گی، اور اونٹ یا گائے ان سات افراد کی جانب سے کافی ہے جن کی جانب سے سات بکریاں کفانت کرتی ہیں" انتہی

یعنی سات حصے ہونگے

واللہ اعلم۔